



Department of Education

Chancellor Richard A. Carranza

11 فروری، 2020

عزیزی اہل خانہ،

ہمارے اسکول خیر مقدم کرنے والے، سب کے لیے مشمولی ماحول رکھتے ہیں اور تعصب اور کسی بھی قسم کی عدم برداشت سے پاک ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر روز پورے شہر کے معلمین، طلبا اور اہل خانہ انتھک محنت کرتے ہیں۔ نیو یارک شہر پبلک اسکولوں میں غیر سامیت، نسلی تعصب یا نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔

یہ عہد بستگی ہمارے کلاس رومز، راہداریوں، اور اسکول کے صحن میں حقیقت بن جاتی ہے جہاں ہم سب مل کر سرگرم عمل طور پر کام کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ہمارے طلبا، عملہ اور اہل خانہ ہماری تائید کرتے ہیں۔ اس کا دارومدار ہم پر ہے۔ اور ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔

اس کوشش کے حصے کے طور پر، نیو یارک شہر محکمہ تعلیم (DOE) اسکولوں اور اہل خانہ کو ایسے وسیلے فراہم کرنا جاری رکھے گا جو ہمارے شہر کی متنوع برادریوں کی آگہی اور فہم کو پروان چڑھائیں اور نفرت کی تباہی کی طاقت کو ظاہر کریں۔ ہماری پُر عظمیٰ پر عمل درآمد کرنے اور اس اہم کام کو جاری رکھنے کے لیے ہم مسرت کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ تعلیم نے میوزیم آف جیوش ہیریٹیج کے ساتھ اپنی شراکت کو توسیع دی ہے۔ جو کہ ہولوکاسٹ کی جیتی جاگتی یادگار ہے۔

30 اگست، 2020 سے آغاز کرتے ہوئے نیو یارک شہر پبلک اسکول کے تمام طلبا اہل خانہ کے تین ارکان کے ساتھ میوزیم کا بالکل مفت دورہ کرنے کے قابل ہوں گے۔

دی میوزیم آف جیوش ہیریٹیج - جو کہ ہولوکاسٹ کی جیتی جاگتی یادگار ہے، مین ہیٹن کے بیٹری پارک سٹی میں 36 بیٹری پلیس پر واقع ہے جو متعدد سب وے لائینوں سے پیدل چل کر جانے کے فاصلے پر ہے۔

یہاں پہنچنے پر، برائے مہربانی نیو یارک شہر پبلک اسکول کے موجودہ اندراج کے ثبوت کے ساتھ (طالبانہ شناخت (آئی ڈی) یا تازہ ترین رپورٹ کارڈ) کے ساتھ میوزیم کے ویزٹر ڈیسک کی جانب جائیں۔ آپ کے دورے میں آڈیو رہنمائی شامل ہے، جس کی پیشکش انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی، ہیبیرو، جرمن، پولیش یا روسی شامل ہے۔

میوزیم کے دورے کی مزید معلومات بشمول اوقات اور تعطیلات ان کی ویب سائٹ (<https://mjhnyc.org/visitor-information>) پر دستیاب ہیں (جو صرف انگریزی میں دستیاب ہے)۔ کئی نمائشوں کے بارے میں مطالعہ کرنے کو یقینی بنائیں اور اپنے بچوں کی عمر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ تعین کریں کہ آپ کے اہل خانہ کے لیے کونسی بہترین رہے گی۔

نیو یارک شہر دنیا کا ایک عمدہ ترین شہر ہے، اور ہمارے اسکولوں کا نظام ہماری برادریوں کے بے پناہ تنوع کی وجہ سے اس قوم کا ایک مثالی ترین نظام ہے۔ ہم سب نیو یارک شہر کے باشندے ہیں اور نیو یارک کے باشندوں کے طور پر ہر ایک کلاس روم، ہر ایک اسکول میں سرگرم عمل جشن منانے اور مشمولیت کو جگہ دینے کے لیے ہم برداشت اور قبولیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔

ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس اہم موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔

متحد ہو کر

Richard A. Carranza